

Note.

1. Assignment must be handwritten.
2. Upload it in "Quiz/Assignment" section, otherwise it will not be checked.

Name: Moaaz

Batch: 334

LMS ID: \_\_\_\_\_

Q. Translate the following into English, keeping in view the idiomatic/figurative expression.  
(10)

ہم زندگی بھر لوگوں کو پرکھتے رہتے ہیں۔ ہمیں دوستوں کی تلاش رہتی ہے مگر قدم قدم پر دشمن ملتے رہتے ہیں۔ دوست تلاش کرنا پڑتے ہیں۔ دشمن بنے بنائے دستیاب ہیں۔ پھر وہی سوال ذہن کے پردے پر ابھر رہا ہے کہ دشمن آخر ہے کون۔ ہر انسان کی زندگی میں بیسیوں یا سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں۔ ان سب کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہوتی ہے۔ ہم تنہا نہیں جی سکتے۔ اہل خانہ، رشتہ دار، پڑوسی، اہل علاقہ، رفقاءے کار، احباب اور دوسرے بہت سے لوگ ہماری زندگی کا حصہ بنے رہتے ہیں۔ یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ بہت سے لوگ سمجھ میں نہیں آتے مگر پھر بھی ہم ان سے کنارہ کش نہیں رہ سکتے۔ بسا اوقات محض مجبوری یا مصلحت کے تحت بھی تعلق نبھانا پڑتا ہے۔

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

In our whole life we judge people. As we are in search of friends but at every step we encounter enemies. As true friends are hard to come by while enemies are easily available everywhere. Then, again the same question arises that who is a real enemy?. As we humans are social being and have to live with all of these people, because we cannot live without family, relatives, neighbours, society and friends. Also, many other people are a part of our life. As it is a life long process. Yet, there are some people who are beyond our understanding but are important to us. So, due ~~through~~<sup>to</sup> interest some time consensual compromised ~~with~~ is made with them